

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن اپنے ملازمین کے لیے ویکسینیشن پالیسی متعارف کرا رہا ہے

برامپٹن، آن (1 ستمبر 2021) - آج کی کونسل کی خصوصی میٹنگ میں طے پایا ہے کہ سٹی آف برامپٹن اپنے تمام عملے کے لیے جاری ویکسینیشن پالیسی کے نفاذ میں پیش رفت کے لیے خصوصی کاوشوں میں تیزی لائے گا۔

کووڈ-19 کے آغاز کے بعد سے اب تک، سٹی کے عملے نے پیل پبلک ہیلتھ کی رہنماء ہدایات کے مطابق اپنے لیبر شراکت داروں اور پیل ریجن کی میونسپلٹی کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور کئی ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جن کی مدد سے سٹی کی سروسز کی فراہمی کے دوران اپنے ملازمین اور اپنے لوگوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جاتی رہی ہے۔ اس پالیسی میں بھی اسی نقطہ نظر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا جس سے سٹی کے عملے اور ان کے اہل خانہ کی صحت و تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ سٹی کووڈ-19 کے خلاف تحفظ فراہم کرتے ہوئے اپنی کمیونٹی کی محفوظ خدمت جاری رکھ سکے۔

سٹی کی پالیسی میں حکومت اونٹیریو کی جانب سے آج اعلان کردہ معلومات پر بھی غور کیا جائے گا جس کے تحت منتخب ترتیبات میں ویکسین لگوانے کے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہو گی۔

پیل ریجن میں ایک سب سے بڑے آجر ہونے کے طور پر، سٹی آف برامپٹن کے پاس 6,000 سے زیادہ ملازمین موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی صحت مندانہ اور محفوظ جائے کار کے لیے پُر عزم ہے جس میں ہمارے عملے اور کمیونٹی کی خیریت و عافیت ایک اولین ترجیح ہے۔ اس پالیسی کا اطلاق سٹی کے سارے شعبہ جات میں کام کرنے والے تمام ملازمین پر ہو گا۔

استثنائی کے حامل افراد کو اونٹیریو ہیومن رائٹس کوڈ کے تحت چھوٹ دی جائے گی۔

مکمل پالیسی، بشمول اطلاق کی تاریخوں کو آنے والے ہفتے کے دوران حتمی شکل دے دی جائے گی۔

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca